

سوال

اللہ تعالیٰ بندے کا عمل کب قبول فرماتا ہے ؟
اور عمل میں کونسی شروط ہوں وہ صالح اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

حمد و ثنا کے بعد:

کوئی بھی عمل اس وقت تک عبادت نہیں بنتا جب تک کہ اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں -

اور وہ دو چیزیں یہ ہے کہ کمال محبت اور کمال تذلل -

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں البقرة (165)

اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں المؤمنون - (57)

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اسے جمع کر دیا ہے:

بیشک یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے الانبياء - (90)

تو جب اس چیز کا علم ہو گیا تو یہ بھی علم ہونا چاہئے کہ عبادت صرف موحد مسلمان کی ہی قبول ہوتی ہے -

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور انہوں نے جو عمل کئے تھے ہم آئے ان کی طرف انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا الفرقان - (23)

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دور جاہلیت میں ابن جدعان صلہ رحمی کیا کرتا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا اسے یہ کام آئے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے یہ کوئی نفع نہیں دے گا کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری غلطیاں معاف کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر۔ (214)

یعنی وہ بعثت و نشور پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی وہ اس لئے عمل کرتا رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔

پھر یہ کہ مسلمان کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں بنیادی طور پر دو شرطیں نہ ہوں۔

اول : اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص نیت :

وہ اس طرح کہ بندے کے سارے اقوال و افعال اور اعمال ظاہری اور باطنی سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے ہوں کسی اور کے لئے نہیں۔

دوم : عبادت اس طریقے اور شریعت کے مطابق ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔

اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعت اور پیروی و اتباع سے ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ کیا جائے اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائے اور ان کی مخالفت نہ کی جائے اور نہ ہی کوئی ایسی نئی عبادت یا طریقہ ایجاد کر لیا جائے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔

اور ان دونوں شرطوں کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اسے چاہئے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے الکہف /-(110)

ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے:

تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی امید ہے یعنی اس کے ثواب اور اچھی جزا اور بدلے کی اسے چاہئے کہ وہ نیک اعمال کرے یعنی جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے موافق ہوں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے اور وہ اس سے صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا چہرہ اور رضا چاہتا ہو۔

لہذا قبول عمل کے یہ دو ضروری ارکان ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے خالص اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونا چاہئے۔ ا ہ



والله اعلم .